

منصب کے امور اور اہلیت

(Job Description & Specification)

JOB/MTMG/01			
کام کرنے کی جگہ (Workplace)	پاکستان	شعبہ (Department)	مدرسۃ المدینہ (Girls)
منصب (Designation)	نگران مجلس	جوابدہ (Report to)	رکن شوریٰ
کام (Function)	مدرسۃ المدینہ (Girls) میں انتظامی معاملات اور مختلف ایونٹس پر ہونے والے اجتماعات وغیرہ میں معاونت کرنا	ماتحت اسٹاف (Subordinate Staff)	شعبے کے تمام ذمہ داران

منصب کے کام - Job Description

1. شعبے کے تمام کاموں کی نگرانی (Supervision) کرنا اور رکن شوریٰ کو مکمل معاونت و معلومات (Information) فراہم کرنا۔
2. شعبے کیلئے تنظیمی لحاظ سے مضبوط مجلس بنانا اور انکی موثر رہنمائی کے ذریعے ان سے کام لینا نیز تقرری کا ہر ماہ جائزہ لینا۔
3. اپنا پیشگی و عملی جدول سافٹ ویئر میں انٹر کرنا، ماتحتوں کی رہنمائی کرنا اور جدول چیک کرنا۔
4. طے شدہ نظام کے مطابق مدنی مشورے کرنا، تیاری کے ساتھ اول تا آخر شرکت اور طے پانے والے مدنی پھولوں کے اہداف کی تکمیل کو یقینی بنانا۔
5. نئے مدارس المدینہ کھلوانا اور شعبے کے سپرد کیے جانے والے مدارس میں دعوت اسلامی کے اصول و ضوابط کا نفاذ کروانا۔
6. شعبے کے پلاٹس اور عمارات کو پر اپرٹی ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کے نام منتقل (Transfer) کروانا۔
7. مدرسۃ المدینہ میں موسم کے مطابق بنیادی ضروریات و سہولیات کو یقینی بنانا۔
8. ایونٹس اجتماعات کے انتظامی معاملات میں معاونت کروانا اور ذمہ داران کو مقامی مجلس سے مسلسل رابطے میں رہنے کا پابند کرنا۔
9. مدارس کی لوکیشنز گوگل میپ میں ایڈ کروانا نیز مدارس میں تحفظ اور اراق مقدسہ کے بکس رکھوانے اور خالی کروانے میں شعبے کی معاونت کروانا۔
10. حفظ و ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل پر اسناد / سرٹیفکیٹس (Certificates) مہیا کروانا۔
11. ہر مدرسۃ المدینہ میں فیڈبیک آفیشل پینا فلیکس لگوانا اور موصول ہونے والے شرعی و تنظیمی مسائل حل کرنا۔
12. شعبے میں شرعی رہنمائی کے لیے مقرر ذمہ دار کے ذریعے ماتحت افراد اور شعبے سے متعلق مسائل کی شرعی رہنمائی لینا۔
13. شعبے کے کاموں کی تکمیل و ترقی کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق پلاننگ اور شرعی و تنظیمی رہنمائی اور مشاورت کیساتھ نفاذ کرنا۔
14. تنظیمی معلومات سے اپڈیٹ رہتے ہوئے شعبے کے SOP's اور JD's کا مطالعہ کرنا اور KPI's سمجھ کر اپنی ٹیم کو سمجھانا۔
15. ماتحت ذمہ داران کے HR (اجارہ) اور فنانس کے معاملات کی نگرانی کرنا اور شعبے سے متعلق موصول شکایات و تجاویز کو حل کرنا۔
16. شعبے کے اخراجات کو ماہانہ کی بنیاد پر خود کفیل (Self-sufficient) کرنے کی کوشش کرنا۔
17. تمام ریکارڈ اپڈیٹ رکھنا، طے شدہ کارکردگیاں چیک کرنا اور سافٹ ویئر میں اندارج (Enter) کروانا۔
18. ای میلز، واٹس ایپ، کالز و میسجز کے بروقت رپلائی دینا اور منصب کے مطابق نگران کی طرف سے ملنے والے ناسک مکمل کرنا۔

منصب کی اہلیت - Job Specification

- دنیاوی تعلیم: میٹرک
- دینی تعلیم: ناظرہ
- کورسز: تدریسی ٹیسٹ + فرض علوم ٹیسٹ + مدرس کورس + نظامت کورس + 12 دینی کام کورس + اصلاح اعمال کورس + 3 دن ٹیچر ٹریننگ کورس
- تجربہ: متعلقہ شعبے میں کم از کم 10 سال کا تجربہ
- Communication & Coordination Skills, Leadership & Team Motivation, Emotional Intelligence, Religious Sensitivity, Conflict Resolution, Organizational Skills, Decision-Making & Problem Solving, Training & Mentorship, Professional Demeanor, Collaboration with Male Counterparts, Family Involvement Management, Vision & Strategic Thinking

اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کرنے اور دعوتِ اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت پانے کے لیے درج ذیل امور پر عمل کی کوشش فرمائیں۔

- روزانہ 2 گھنٹے 12 دینی کاموں بالخصوص قافلہ، مدنی مذاکرہ، نیک اعمال، ہفتہ وار اجتماع اور بڑی راتوں کے اجتماعات میں شرکت فرمائیں نیز ماتحتوں کو بھی ترغیب دلائیں۔
- سنت کے مطابق لباس، واڑھی، زلفیں اور سفید عمامہ وغیرہ اپنائیں۔
- اپنے متعلقہ فرض علوم سیکھیں اور اپنے تحت ذمہ داران کو اسکا ذہن دیں۔
- عاشقانِ رسول (شخصیات) کے بچوں کا جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، فیضانِ آن لائن اکیڈمی اور فیضانِ اسلامک اسکول سسٹم میں داخلہ کروائیں۔
- علمی خوشی (عیادت، تعزیت، کفن دفن اور شادی وغیرہ) کے مواقع میں شرکت کریں نیز وقتاً فوقتاً علماء و مشائخ اور دنیاوی بااثر افراد سے ملاقات کریں۔
- شخصیات کو دعوتِ اسلامی کے اداروں (جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دارالمدینہ، دارالافتاء اہلسنت اور فیضانِ مدینہ وغیرہ) کا وزٹ کروائیں۔
- مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ امیر اہلسنت کی تصنیفات اور اسلامک ریسرچ سینٹر (المدینۃ العلمیہ) کی دیگر کتب و رسائل عاشقانِ رسول میں تقسیم/سینڈ کریں۔